

## السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا وائرس (لاک ڈاون) کی وجہ سے صوبہ بیسن اور دارالحکومت ویسبادن میں کیا نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ 16 اپریل 2020 کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے۔

یہ قوانین 3 مئی 2020 تک لاگو ہوں گے۔ اس مدت کے بعد کیا ہوگا اس فیصلے کا اعلان حکومت 30 اپریل کو کرے گی

### سماجی رابطے اور وزٹ پر پابندی

- سماجی رابطے پر پہلے کی طرح پابندیاں 3 مئی 2020 تک برقرار رہیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کی طرح صرف دو افراد ہی اکٹھے باہر جا سکتے ہیں اور باہر اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان 1.5 میٹر فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ فیملی اہل خانہ پہلے کی طرح اب بھی اکٹھے باہر جا سکتے ہیں۔ سماجی رابطے پر پابندیوں کے متعلق مزید معلومات آپ 23 مارچ کے <https://bit.ly/345jkCy> ہمارے مضمون میں حاصل کر سکتے ہیں۔

- ہسپتالوں، اولڈ ہوم اور نرسنگ ہومز کو وزٹ کرنے پر پابندی پہلے کی طرح اب بھی برقرار ہے۔ صرف مجبوری کی صورت میں وزٹ کی اجازت ہے، مثال کے طور پر کسی اپنے کی وفات پر۔

- قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں، فی شخص یہ 200 سے 5000 یورو کے درمیان جرمانے ہیں

### اسکولوں اور کنڈرگارٹن

- بیسن کے تعلیمی ادارے اسکول آہستہ آہستہ 27 اپریل 2020 سے دوبارہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن پہلے صرف تمام قسم کے تعلیمی اداروں کے ہائی اسکولوں کی بڑی کلاسیں جو آخری سال میں ہیں۔ پھر اس سے چھوٹی کلاسیں اور ایسے ہی ہر بار اگلی چھوٹی کلاس اور سب سے آخر پہ پرائمری اسکول کھولے جائیں گے۔

- کنڈرگارٹن اور کنڈر ٹاگ سنٹر (کیٹاس) اب بھی بند رہیں گے۔

### کیا کھلے گا کیا بند رہے گا؟

پیر، 20 اپریل 2020 سے، جن دوکانوں کو کھولنے کی اجازت ملی ہے ان کا رقبہ آٹھ سو - مربع میٹر تک ہونا چاہیے۔ آٹو ورکشاپ، سائیکل مرمت کی دوکانیں، کتابوں کی دکانیں بھی اس قاعدے پہ پورا اترتے ہوئے کھولی جا سکتی ہیں۔

- ریسٹورنٹ، بار، اور کلب پہلے کی طرح اب بھی بند رہیں گے، ریسٹورنٹ سے ہوم ڈیلوری اور ٹیک وے کی اجازت ہے۔ آئس کریم کی دکانوں سے بھی 20 اپریل 2020 کے بعد ہوم ڈیلوری کروا سکتے ہیں۔

- حجام کی دوکان (بیئر ڈریسرز) بیسن میں چار مئی کو صفائی کے متعلق حفاظتی اقدامات پر - عمل کرتے ہوئے کھولنے کی اجازت ہے۔

- چرچ ، مساجد ، عبادت خانے اور دیگر عبادت گاہیں اب بھی بند رہیں گی۔

بڑے پروگرام جیسے کوئی قومی تہوار یا فٹ بال کا میچ ( سامعین کے ساتھ ) 31 اگست 2020 تک ممنوع ہے۔

### حفاظتی ماسک

حکومت خریداری کے دوران اور بسوں یا ٹرینوں میں سفر کے دوران حفاظتی ماسک پہننے کی سفارش کرتی ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے -

سٹی آف ویزبارڈن انفارمیشن ٹیلیفون نمبر: 0611318080 پر روزانہ صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک معلومات حاصل کریں۔

کورونا وائرس کے بارے میں مزید سوالات اور معلومات حاصل کرنے کے لئے ہاٹ لائن بیسن: 5554666-0800 - روزانہ صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک۔

ویزبارڈن میں کورونا وائرس کے بارے میں معاملات کچھ یوں ہے، (16 اپریل، 2020، شام 3 بجے تک): 269 لوگ مثبت کوویڈ 19 کے شکار۔ ان میں سے 181 افراد صحت یاب، اور نو افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔

جزاکم اللہ احسن الجزا